

Q.7. Translate the following into English, keeping in view the idiomatic/figurative expression.

(10)

جہاں پاکستان انتہائی نازک ترین دور سے گزر رہا ہے وہیں ارشد ندیم پاکستانیوں کے لئے ایک امید سحر بن کر ابھرا ہے۔ اتنے مشکل حالات میں بھی پاکستانی عوام ارشد ندیم کے گولڈ میڈل جیتنے پر اپنی تمام تکلیفیں بھول کر اس کی خوشی میں شامل ہو گئے۔ بھارتی ایتھلیٹ نیرج چوپڑا کی ماں کی جانب سے بھی ارشد ندیم کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا گیا اور کہا کہ یہ چاندی کا میڈل بھی ہمارے لئے سونے جیسا ہے اور جس نے سونا جیتا ہے وہ بھی ہمارا بیٹا ہے۔ یہ چمکتا دمکتا ستارہ کہاں سے نکل کر اچانک سے پوری دنیا میں چھا گیا اور سب کے دلوں میں گھر کر گیا۔ بے شک ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں۔

Best of Luck for CSS2025

Activate Windows  
Go to PC settings to activate Windows

where Pakistanis are going through severely critical situations, Arshad Nadeem has erupted as a sign of hope for the Pakistani people. In such difficult times Pakistani people have joined the delight of Arshad Nadeem on winning gold medal by forgetting their own sorrow. The mother of Indian athlete, Neeraj Chopra, has also extended her delight on the success of Arshad Nadeem and said that for the silver medal is also like gold medal for us and who has won the gold is also our son. This twinkling star has risen from where and instantly highlighted all over the world and reserved his place in the hearts of everyone. Indeed, our country does not lack the talent.

